

AVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico. O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida, que serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistência Técnicas.

ภาษาไทย

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านข้อมูลที่สำคัญอย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องรวมทั้งอุปกรณ์เสริมและกับคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป อุปกรณ์เสริมที่นำมาอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

อันตราย

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง (รูปที่ 1)
- ไม่ควรใช้สายไฟเพิ่มความปลอดภัยในการชาร์จเครื่อง

คำเตือน

- อะแดปเตอร์มีหม้อแปลงสลับสำหรับเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้า ห้ามนำเครื่องเตาเตาหรือเครื่องใช้ที่มีหม้อแปลงอื่น การทำงานนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- โปรดใช้อะแดปเตอร์ที่โฆษณาขึ้นในการชาร์จไฟเครื่อง
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกาย ประสบการณ์ผิด หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำเครื่องนี้ไปใช้งาน แม้แต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำหรือสิ่งนี้ไปโดน
- ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเครื่องก่อนทำความสะอาดโดยใช้น้ำสะอาด
- อย่าเสียบวัตถุที่มีโลหะในช่องสำหรับเสียบปลั๊กไฟไปให้ข้อขัด
- ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนใช้ อย่าใช้อุปกรณ์หากเกิดความเสียหายเนื่องจากอาจทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายโดยตัวท่านส่วนประกอบเดียวกันเสมอ

ข้อแนะนำ

- ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยน้ำที่ร้อนกว่าอุณหภูมิของน้ำก้นบัว (สูงสุด 40°C)
- ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ตามจุดประสงค์ของอุปกรณ์ตามที่แสดงไว้ในคู่มือผู้ใช้งาน
- ตรวจสอบลักษณะที่ถูกต้อง ควรใช้อุปกรณ์เครื่องใช้โดยบุคคลเดียวกันนั้น
- อย่าใช้กับบริเวณผิวที่ขอบบาง หรือขาดจากการเสื่อมสภาพจะต้องเป็นแผ่นรองหรือมีแผ่นเคลือบผิวของ เป็นหิน เป็นพลาสติก เป็นแก้ว (หินบด) หรือเป็นเคลือบ โดยไม่ใช้กับงานแพทย์อื่นใด บุคคลที่ควรปรึกษานักแพทย์ก่อนใช้เครื่องกำจัดขน ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางภูมิคุ้มกันลดลง หรือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยโรค Haemophilia หรือผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- ผิวหนังของคุณอาจมีอาการระคายเคืองหรือมีผื่นแดงเล็กน้อยเมื่อใช้เครื่องสองสามครั้งแรก ซึ่งเป็นอาการปกติและจะหายไปไม่ช้า เมื่อคุณใช้บ่อยครั้งขึ้น ร่างกายจะคุ้นชิน และอาการระคายเคืองของผิวหนังจะลดลง หากยังมีอาการระคายเคืองอยู่หลังผ่านไป 3 วัน แนะนำให้ไปพบแพทย์
- เพื่อป้องกันความเสียหายและการบาดเจ็บจากไฟฟ้าเกิดขึ้น แก้มเครื่องที่กำลังเปิดใช้งาน (มีหรือที่ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ) ให้ทำงานสั้นๆ ในที่น้ำ ขนคิ้ว ขนตา เล็บนิ้ว เล็บเท้า สายไฟ และอื่นๆ
- อย่าใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับหัวโกนเฉพาะจุดโดยไม่แบ่งจุดซ่อนเร้น นอกเหนือจากบริเวณซ่อนบิกินี เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ห้ามใช้แปรงสีฟันวิโดทู ทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการกำจัดขนเนื่องจากอาจทำให้อาการระคายเคืองผิวที่เกิดจากการกำจัดขนรุนแรงมากยิ่งขึ้น
- ห้ามใช้เส้นหรือลวดอื่นสัมผัสข้างระหว่างการใช้งานเมื่อคุณต้องกำจัดขนในบริเวณผิวที่เปื้อน เพราะอาจทำให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงได้
- ควรชาร์จไฟ ใช้รวม และจัดเก็บเครื่องที่อุณหภูมิระหว่าง 10°C และ 35°C
- หากเครื่องตั้งสีแดงเพื่อความสะดวกในการใช้งาน อย่าถอดมันออกเพื่อให้โดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการผิวหนัง
- ห้ามใช้ชุดอุปกรณ์บริเวณใกล้สิ่งของตัวรับบนผนังที่มีหรือเครื่องมือปรับอากาศไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ร้ายแรงกับชุดอุปกรณ์
- ห้ามใช้ระบบอากาศอัด แ่น้ำโซดา สารทำความเย็นหรือที่มีพิษจัด หรือของเหลวที่เป็นอันตราย เช่น น้ำมันเบนซินหรืออะซิโตนในการทำความสะอาดอุปกรณ์

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

- อุปกรณ์ Philips เครื่องใช้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ทั่วไป

- อุปกรณ์นี้เป็น แบบกันน้ำ (รูปที่ 2) เหมาะสำหรับใช้ในอ่างอาบน้ำหรือฝักบัว และสามารถทำความสะอาดโดยใช้น้ำได้ส่วน เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์นี้จึงสามารถใช้ได้ในบะเือนไวอาจนาเท่านั้น
- อุปกรณ์เครื่องนี้เหมาะสำหรับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 100 ถึง 240 โวลต์
- ชุดอุปกรณ์สามารถแปลงแรงดันไฟฟ้าทาง 100-240 โวลต์เป็นแรงดันไฟฟ้ากว่า 24 โวลต์ที่มีความปลอดภัยได้

การรับประกันและการสนับสนุน

หากคุณต้องการข้อมูลหรือการสนับสนุน โปรดไปที่

www.philips.com/support หรืออ่านใบรับประกันทั่วโลกของของแต่ละประเทศ

ข้อจำกัดการรับประกัน

ข้อใดข้อหนึ่ง ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันทั่วโลก เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องสักรหรือตามปกติอื่นเนื่องมาจากการใช้งาน

การรีไซเคิล

- ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์รวมทั้งขยะในครัวหรือทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับกากถังไปให้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) โดยจะเป็นการช่วยรักษาการะสิ่งแวดล้อมที่ดี

TIẾNG VIỆT

Thông tin quan trọng về an toàn

Độc kỹ thông tin quan trọng này trước khi sử dụng thiết bị cùng phụ kiện và cắt đứt để tiện tham khảo sau này. Phụ kiện đi kèm có thể khác nhau cho những sản phẩm khác nhau.

Nguy hiểm

- Giữ khô bộ điều hợp (Hình 1).
- Không sử dụng dây điện kéo dài để sạc thiết bị.

Cảnh báo

- Bộ điều hợp chứa bộ biến áp. Không cắt bỏ bộ điều hợp này để thay bằng bộ điều hợp khác, vì làm như vậy sẽ gây ra tình huống nguy hiểm.
- Chỉ sử dụng bộ điều hợp đi kèm theo thiết bị để sạc pin cho thiết bị.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hay người thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.

- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Luôn rút phích cắm điện ra khỏi máy trước khi rửa máy dưới vòi nước.
- Không nhét vật chứa kim loại vào ổ cắm của thiết bị để tránh chập mạch.
- Luôn kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng. Không sử dụng nếu thiết bị này bị hư hỏng, bị như vậy có thể gây ra chấn thương. Luôn thay thế bộ phận bị hỏng với bộ phận cùng loại và đúng tiêu chuẩn.

Chú ý

- Không sử dụng nước nóng hơn nhiệt độ nước tắm (tối đa 40°C) để rửa thiết bị.
- Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng đã định như mô tả trong hướng dẫn sử dụng.
- Để đảm bảo vệ sinh, thiết bị chỉ nên được sử dụng bởi một người.
- Không sử dụng thiết bị trên da bị kích thích hoặc da bị gầy tĩnh mạch, phát ban, có vết dõm, nốt ruồi (có lõng) hoặc bị thương mà không tham khảo bác sĩ trước. Những người bị bệnh phản ứng miễn dịch suy giảm hoặc những người mắc bệnh tiểu đường, máu khó đông hoặc suy giảm miễn dịch cũng phải tham khảo bác sĩ trước.
- Trong vài lần đầu sử dụng thiết bị, da bạn có thể hơi đỏ và bị kích ứng. Hiện tượng này là hoàn toàn bình thường và sẽ nhanh chóng biến mất. Sau khi sử dụng thiết bị thường xuyên hơn, da bạn sẽ quen dần với thiết bị và giảm dần kích ứng. Nếu hiện tượng kích ứng không hết trong ba ngày, chúng tôi khuyên bạn nên đi khám bác sĩ.
- Để tránh hư hỏng và bị thương, để thiết bị đang vận hành (có hoặc không có phụ kiện) cách xa tóc, mặt, lông mày, lông mi, quần áo, sợi dây, dây điện, bàn chải, v.v.
- Không sử dụng phụ kiện cắt tỉa chính xác khi không có lực trên khu vực nhạy cảm ngoài vùng bikini và điều này có thể gây thương tích cho bạn.
- Không sử dụng bàn chải tẩy da chết ngay sau khi nhón lông, vì như vậy có thể làm tăng khả năng bị ứng da do nhỏ lỗm.
- Không sử dụng dầu tắm khi nhỏ lỗm trên da ướt, vì như vậy có thể gây kích ứng nặng cho da.
- Sạc pin, sử dụng và bảo quản thiết bị ở nhiệt độ từ 10°C đến 35°C.
- Nếu thiết bị của bạn được trang bị đèn để sử dụng tốt nhất, không nhìn trực tiếp vào đèn để tránh bị đèn gây chói mắt.
- Không sử dụng bộ điều hợp trong hoặc gần ổ cắm tường có cảm hoặc đã từng cắm máy xì thơm phòng để tránh thiết bị hại không thể khác phục được cho bộ điều hợp.
- Không sử dụng khi nén, miếng tẩy rửa, chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc những chất lỏng mạnh như xăng hay axeton để lau chùi thiết bị.

Điện từ trường (EMF)

- Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện từ trường.

Tổng quát

- Máy cạo râu này có **khả năng chống thấm nước (Hinh 2)**. Nó thích hợp với việc sử dụng khi tắm và rửa dưới vòi nước. Ví lý do an toàn, thiết bị chỉ có thể được vận hành không dây.
- Máy này thích hợp để sử dụng với điện áp từ 100 đến 240 vôn.
- Bộ điều hợp biến điện áp từ 100-240 vôn xuống mức điện áp thấp an toàn dưới 24 vôn.

Bảo hành và hỗ trợ

Nếu bạn cần thông tin hoặc hỗ trợ, vui lòng truy cập

www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu riêng biệt.

Các giới hạn về bảo hành

- Bộ phận cắt không nằm trong phạm vi các điều khoản bảo hành toàn cầu v các bộ phận này bị mòn.

Tái chế

- Không vứt sản phẩm cùng chung với rác thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó mà hãy đem thiết bị đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường.

简体中文

重要安全信息

使用本产品及其附件之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。 随附的附件可能因产品而异。

危险

- 保持电源部件干燥 (图 1)。
- 警告符号注释：禁止用在打开的水龙头下进行清洗 (图 1)。
- 请勿使用延长电线为本产品充电。

警告

- 适配器中包含一个变压器。请勿剪下适配器并更换为其他插头，否则将导致严重后果。
- 产品充电，有须随产品提供的电源适配器。
- 产品不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 请照顾好儿童，本产品不能用于玩耍。
- 在自来水龙头下清洗本产品之前，务必拔掉其电源插头。
- 请勿将含金属的物体插入产品插座，以免发生短路。
- 使用前，请务必检查产品。请勿使用损坏的产品，否则可能对人体造成伤害。请务必用原装型号更换损坏的部件。

警告

- 切勿使用温度高于洗澡水温度（最高 40 °C）的热水中洗本产品。
- 只能将本产品用于用户手册中所示的原定用途。
- 出于卫生的目的，本产品只能供一个人使用。
- 在没有事先咨询医生的情况下，请不要在过敏皮肤、有静脉曲张、皮疹、粉刺、胎痣（有毛）或伤口的皮肤上使用本产品。免疫力下降的使用者或糖尿病病、血友病或免疫缺陷患者也应事先咨询医生。
- 前几次使用本产品时，您的皮肤可能会受到轻微的刺激并出现轻微的发红。这绝对属于正常现象，并且会很快消失。当您更频繁地使用本产品时，您的皮肤就会适应，皮肤刺激感也会减弱。如果皮肤受刺激的现象在三天内仍未消失，建议您咨询医生。
- 为避免损伤到人体，请不要将运转中的产品（无论是否安装配件）靠近您的头发、脸部、眉毛、睫毛、衣服、线头、电源线 and 刷子等。
- 除比基尼线区域以外，不要在无梳齿的情况下在私密区上使用精细剃毛配件，因为这可能造成损伤。

- 脱毛后，请勿立即使用去死皮刷，否则可能增加脱毛产生的皮肤刺激感。
- 为湿润的皮肤脱毛时，请勿使用沐浴油，否则可能导致严重的皮肤刺激。
- 充电、使用和存放本产品的温度应介于 10 °C-35 °C 之间。
- 如果您的产品配有灯光来实现良好使用效果，则请勿直视灯光，以免眩暈。
- 请勿在包含或已经包含电动空气清新器的墙壁插座的上面或周围使用电源部件，以防止电源部件受到不可修复的损坏。
- 切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

电磁场 (EMF)

- 本 Philips 产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

概述

- 该产品具有防水性能 (图 2)。 适合在沐浴或淋浴时使用，也可以放在水龙头下清洗。出于安全原因，该产品在使用时不能连接电线。
- 此符号表示： 适合在淋浴中使用 (图 2)。
- 允许在浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
- 本产品适合在 100 - 240 伏的电源电压下工作。
- 电源部件可将 100-240 伏的电压转换为 24 伏以下的安全低电压。

保修和支持

如果您需要信息或支持，请访问 **www.philips.com/support** 或阅读单独的全球保修卡。

保修条款

修剪部件不在国际保修条款的涵盖范围之内，因为修剪部件属于易磨损物品。

回收

- 弃置本产品时，请不要将其与一般生活垃圾放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。这样做将有利于环保。

繁體中文

重要安全資訊

使用本產品與其配件前，請先仔細閱讀此重要資訊，並保留說明以供日後參考。 提供的配件可能隨產品而異。

危險

- 電源供應裝置請保持乾燥 (圖 1)。
- 請勿使用延長線為本產品充電。

警告

- 電源轉換器內含一個變壓器。請勿切斷電源轉換器而以其他的插頭取代，否則會造成危險。
- 只能使用產品所附的電源轉換器為產品充電。
- 本產品不適合供下列人士 (包括孩童) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方式，方可使用。
- 孩童使用本產品須有人監督，以免孩童將本產品當成玩具。
- 在水龍頭下沖洗本產品之前，請先拔掉產品電源插頭。
- 請勿將金屬物體插入產品插頭的電源插座，以避免短路。
- 使用前請務必檢查本產品。若產品受損請勿使用，以免受傷。零件如有受損，請務必以原型號零件更換之。

警告

- 絕對不得使用高於淋浴水溫 (最高 40 °C) 的水來沖洗本產品。
- 本產品僅限用於本使用手冊所述之相關用途。
- 為保衛生起見，請勿多人共用本產品。
- 請勿將本產品用於具有以下症狀的皮膚：過敏發炎、靜脈曲張、出疹、起斑、長痣 (毛痣)，或未諮詢醫師即將本產品用於傷口處。有免疫不良反應，或是患有糖尿病、血友病或免疫不全的患者，在使用本產品前，應先諮詢醫師。
- 前幾次使用本產品時，您的皮膚可能會稍微發紅刺激。這些現象完全正常，很快就會消失。多使用本產品幾次後，您的皮膚會逐漸習慣，且皮膚不適會減少。如果刺痛感未在三天之內消失，建議您諮詢醫師。
- 為避免造成損壞與傷害，請將運作中的產品 (無論有無配件) 遠離您的頭髮、臉部、眉毛、睫毛、衣物、絲線、電線、毛刷等。
- 請勿在未搭配梳梳情況下，將精密修整刀頭配件用於比基尼線之外的私密部位，以免導致皮膚受傷。
- 除毛後請勿立即使用去角質刷，這會使除毛造成的皮膚敏感狀況更為明顯。
- 在皮膚潮濕的狀態下除毛時，請勿使用沐浴油，因為這可能會對皮膚造成嚴重刺激。
- 請於室溫 10 °C 到 35 °C 間充電、使用並存放本產品。
- 如果您的產品配有最佳使用指示燈，請勿直視燈光，以免因此造成眩目。
- 請勿在插入或已插入電子空氣清淨機的牆壁插座內或附近使用電源供應裝置，以免電源供應裝置發生無法修復的損壞。
- 絕對不可使用壓縮空氣、鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。

電磁波 (EMF)

- 本 Philips 產品符合所有電磁場暴露的相關適用標準和法規。

一般

- 本產品防水 (圖 2)。 適合在泡澡或淋浴時使用，並可在水龍頭下清潔。 因此為了安全起見，此產品只能以無線方式操作。
- 本產品適用於 100 到 240 伏特的插座電壓。
- 電源供應裝置可以將 100-240 伏特的電壓轉換為低於 24 伏特的安全低電壓。

保固與支援

如需資訊或支援，請造訪：**www.philips.com/support**，或另行參閱全球保證書。

保固限制

由於刀組具有磨損性，因此不在全球保固範圍內。

回收

- 本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。

- لا تضعي المهابي في - أو بالقرب من - مأخذ كهرباء به معطر هواء كهربائي، أو كان يحتوي عليه، لمنع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالمهابي.
- لا تستخدمي مطلقاً الهواء المضغوط، أو إسفنجات التنظيف، أو المواد المنظفة الكاشطة أو السوائل العدوانية مثل البترول أو الأسيتون لتنظيف الجهاز.

المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

- يتوافق هذا الجهاز، الذي تقدمه Philips، مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

أمور عامة

- هذا الجهاز **مضاد للماء (الشكل 2)**. وهو مناسب للاستخدام أثناء الاستحمام أو الغتسال باليدش ويمكن تنظيفه تحت الصنوبر. ولأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكن استخدام الجهاز إلا عند فصل السلك منه فقط.
- يعد الجهاز مناسباً للجهد الكهربائي الرئيسي الذي يتراوح من ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولتاً.
- يحول المهابي الجهد ١٠٠-٢٤٠ فولتاً إلى جهد منخفض وآمن أقل من ٢٤ فولتاً.

الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو الدعم، يرجى زيارة موقع الويب **www.philips.com/support** أو قراءة كتيب الضمان العالمي المنفصل.

قيود الضمان

لا تغطي شروط الضمان الدولي وحدات القص لأنها معرضة للتآكل.

إعادة التدوير

- لا تُلقي المنتج مع المخلفات المنزلية العادية عند انتهاء صلاحيته، ولكن قومي بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية من أجل إعادة تدويره. بقمالكم بذلك، فسنُت مساعدتين في المحافظة على البيئة.

فارسی

اطلاعات امنیتی مهم

این اطلاعات مهم را به دقت قبل از استفاده از دستگاه و وسایل جانبی بخوانید و آن را برای استفاده های بعدی نزد خودتان نگه دارید. وسایل جانبی ارائه شده ممکن است در محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت باشند.

خطر

- آداپتور را خشک نگه دارید (**تصویر ۱**).
- از سیم رابط برق برای شارژ دستگاه استفاده نکنید.

هشدار

- آداپتور حاوی مبدل است. بنابراین هرگز آداپتور را قطع نکنده و یا یک دوشاخه دیگر تعویض نکنید. نیز باید بسیار خطرناک است.
- فقط از آداپتور ارائه شده برای شارژ دستگاه استفاده کنید.
- این دستگاه برای استفاده افراد (از جمله کودکان) دارای تاوانی فیزیکی، حسی یا ذهنی یا کسانی که تجربه و دانستی کافی ندارند در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت یا دستورالعمل کافی برای استفاده از دستگاه توسط مسئول این افراد ارائه شده باشد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا دستگاه بازی نکنند.
- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه زیر شیر آب، دوشاخه آن را از برق جدا کنید.
- برای جلوگیری از ایجاد مدار کوتاه، اجسام فلزی را وارد سوکت دستگاه نکنید.
- همیشه قبل از استفاده از دستگاه، آن را بررسی کنید. اگر دستگاه آسیب دیده است از آن استفاده نکنید. ممکن است دچار چراخت قسمت فوسید آسیب دیده دستگاه را همیشه با نوع اصلی آن جایگزین کنید.

احتیاط

- هرگز از آبی گرم تر برای حمام (حداکثر ۴۰ درجه) برای آیکشی دستگاه استفاده نکنید.
- از این دستگاه فقط برای اهداف نشان داده شده در دفترچه راهنما استفاده کنید.
- به دلیل بهاینداشتن، باید دستگاه فقط توسط یک نفر استفاده شود.
- بدون مشورت اولیه با پزشک، از دستگاه روی پوست حساس یا جایی که زگی گشاد شده، خراشی وجود دارد، زردی و خال و جوش (موهای) را زخم استفاده نکنید.
- افرادى که سیستم ایمنی ضعیف دارند یا افراد مبتلا به دیابت، هموفیلی یا بیماری های سیستم ایمنی نیز باید ابتدا با پزشک مشورت کنند.
- در اولین دفعات استفاده از دستگاه ممکن است پوستتان کمی قرمز و حساس شود. این حالت کاملاً طبیعی است و به سرعت برطرف می شود. با استفاده مداوم تر از دستگاه، پوستتان به آن عادت می کند و میزان حساسیت کمتر می شود. اگر آثار حساسیت در مدت سه روز از بین نرفت، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید.
- برای جلوگیری از بروز آسیب و جراحت، دستگاه در حین کارکرد (یا ضمیمه یا بدون آن) باید از پوست سر، صورت، مژه، ابرو، لباس ها، نخ، سیم، برس و دیگر موارد دور نگه‌داشته شود.
- از اتصال های اصلاح دقیق بدون شانه روی قسمت های نزدیک به خط کشاه ران استفاده کنید زیرا ممکن است دچار جراحت شوید.
- فوراً بعد از اپیلاسیون از برس برداشتن پوست های مرده استفاده نکنید، این کار ممکن است حساسیت های ایجاد شده در نتیجه اپیلاسیون را تشدید کند.
- در هنگام استفاده از دستگاه روی پوست خیس از روغن و شامپو بدن استفاده نکنید چون ممکن است باعث حساسیت شدید پوست شما شود.
- دستگاه را در دمای ۱۰۰ و ۳۵ درجه سانتی گراد شارژ کرده، نگهداری کنید و از آن استفاده کنید.
- اگر دستگاه دارای زوری برای استفاده بهینه است، مستقیماً به نور نگاه نکنید زیرا باعث گچی می شود.
- برای اینکه به آداپتور آسیب وارد نشود، از آداپتور در نزدیکی یا روی سوکت برق بنواری که دستگاه تهویه هوا به آن متصل است یا قبلاً متصل بوده است، استفاده نکنید.
- هرگز از هوای فشرده، پدهای فستونی، مواد شوینده ساینده یا مایعات ساینده مانند بنزین یا استون برای تمیز کردن این دستگاه استفاده نکنید.

میدان های الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips از همه استانداردهای قابل اجرا و قوانین مربوط به فرارگیری در معرض میدان های مغناطیسی تبعیت می کند.

مشخصات کلی

- این دستگاه **ضد آب (تصویر ۲)** است. می توانید آن در حمام، هنگام دوش گرفتن یا برای تمیز کردن زیر شیر آب استفاده کنید. بنابراین به دلیل امنیتی، می توانید از این دستگاه بدون سیم استفاده کنید.
- این دستگاه برای ولتاژهای برق ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت مناسب است.
- آداپتور ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت را به باتری پانچ کمتر از ۲۴ ولت تبدیل می کند.

ضمانت نامه و پشتیبانی

اگر به اطلاعات یا پشتیبانی نیاز داشتید، از **www.philips.com/support** دیدن کنید یا دفترچه ضمانت نامه را مطالعه کنید.



محدودیت های ضمانت

وسایل برقی تحت پوشش ضمانت بین المللی نیستند زیرا جزو کالای مصرفی محسوب می شوند.

باریافت



PHILIPS



معلومات مهمة حول السلامة

اقرأ هذه المعلومات المهمة بعناية قبل استخدام الجهاز وملحقاته واحفظني بها

للارجوع إليها في المستقبل. قد تختلف الملحقات المرفقة باختلاف المنتجات.

خطر

- لا تضعي المهابي على سطح - أو بالقرب من - مأخذ كهرباء به معطر هواء كهربائي، أو كان يحتوي عليه، لمنع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالمهابي.
- لا تستخدمي مطلقاً الهواء المضغوط، أو إسفنجات التنظيف، أو المواد المنظفة الكاشطة أو السوائل العدوانية مثل البترول أو الأسيتون لتنظيف الجهاز.

المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

- يتوافق هذا الجهاز، الذي تقدمه Philips، مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو الدعم، يرجى زيارة موقع الويب **www.philips.com/support** أو قراءة كتيب الضمان العالمي المنفصل.

قيود الضمان

- لا تستخدمي مطلقاً مياه درجة حرارتها أعلى من درجة حرارة الدش (الحاد الأقصى ٤٠ درجة مئوية) لتنظيف الجهاز.
- استخدمي هذا الجهاز فقط الغرض المقصود منه كما هو موضح في دليل المستخدم.
- لاساب صحية، يجب استخدام هذا الجهاز بواسطة شخص واحد فقط.
- لا تستخدمي الجهاز على بشرة منهجة أو بشرة مصابة بالدوالي أو الطفق أو البقع أو الشامات (إلى بها شعر)، أو الجروح دون استشارة طبيبك أولاً. ويجب على الأشخاص الذين يعانون من نقص في الاستجابة المناعية أو الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو الهموفيليا أو نقص المناعة استشارة طبيبهم أولاً.
- قد تدو بشرتك حمراء اللون ومنتهجة قليلاً في المرات القليلة الأولى التي تستخدمي فيها الجهاز. هذه الظاهرة أمر طبيعي تماماً وسرعان ما تختفي. عند استخدام الجهاز أكثر من مرة، تتعاد بشرتك عليها وقبل تهيج البشرة، وإذا لم يخفني التهيج في غضون ثلاثة أيام، فننصحك باستشارة طبيب.
- لمنع حدوث أي ضرر وإصابات، حافظي على إبقاء الجهاز قيد التشغيل (مع المرفقات أو بدونها) بعدة من ثغرة الرأس، والوجه، والحواجب، والرموش، والملايس، والكعوط، والاسناب، والفرش، وما إلى ذلك.
- لا تستخدمي مرفقات التشذيب الدقيقة دون مسط في المناطق الحساسة بخلاف خط الإبرتي، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.
- لا تستخدمي أية فرشاة تقشير بعد عملية إزالة الشعر مباشرة، لأن هذا قد يزيد من عملية تهيج البشرة المتوقعة والناجمة عن عملية إزالة الشعر.
- لا تستخدمي زيت أو سوائل الاستحمام عند إزالة الشعر من البشرة الرطبة، لأنه قد يؤدي إلى حدوث تهيج حاد في البشرة.
- قومي بتجش الجهاز واستخدامه وتخزينه في درجة حرارة تتراوح بين ١٠ و٣٥ درجة مئوية.
- إذا كان جهازك مزوداً بضوء من أجل الاستخدام الليلي، فتد نظري إليه مباشرة حتى لا تنهيري بصره.

ENGLISH

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger

- Keep the adapter dry (Fig. 1).
- Do not use an extension cord to charge the appliance.

Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Only use the adapter supplied to charge the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always unplug the appliance before you clean it under the tap.
- Do not insert metal-containing objects into the socket of the appliance to avoid short-circuiting.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

Caution

- Never use water hotter than shower temperature (max. 40°C) to rinse the appliance.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Do not use the appliance on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first. People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the appliance. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you use the appliance more often, your skin gets used to it and skin irritation decreases. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- To prevent damage and injuries, keep the operating appliance (with or without attachment) away from scalp hair, face, eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes etc.
- Do not use precision trimming attachments without comb on intimate areas other than the bikini line, as this could cause injury.
- Do not use any exfoliation brush immediately after epilation, as this may intensify possible skin irritation caused by epilation.
- Do not use bath or shower oils when you epilate wet skin, as this may cause serious skin irritation.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 10°C and 35°C.
- If your appliance is equipped with a light for optimal use, do not look directly into the light to avoid being dazzled by it.
- Do not use the adapter in or near wall sockets that contain or have contained an electric air freshener to prevent irreparable damage to the adapter.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Electromagnetic fields (EMF)

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General

- This appliance is **waterproof** (Fig. 2). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance can therefore only be used without cord.
- The appliance is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100–240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

Cutting units are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

BAHASA INDONESIA

Informasi keselamatan penting

Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan alat dan aksesorinya, simpanlah untuk referensi di kemudian hari. Aksesori yang disertakan dapat berbeda-beda, tergantung pada produk.

Bahaya

- Usahkan adaptor tetap kering (Gbr. 1).
- Jangan gunakan kabel sambungan untuk mengisi ulang daya baterai.

Peringatan

- Adaptor terdiri atas transformator. Jangan memotong adaptor untuk menggantinya dengan soket yang baru, karena tindakan ini bisa membahayakan.
- Gunakan hanya steker yang telah disediakan untuk mengisi baterai alat ini.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Selalu cabut steker dari alat ini sebelum membersihkannya di bawah keran.
- Jangan masukkan benda yang mengandung logam ke dalam soket steker alat untuk menghindari korsleting.
- Selalu periksa alat sebelum Anda menggunakannya. Jangan gunakan alat jika telah rusak, karena dapat menyebabkan cedera. Selalu ganti komponen yang rusak dengan yang asli.

Perhatian

- Jangan sekali-kali menggunakan air shower yang suhunya lebih tinggi (maks. 40°C) untuk membilas alat.
- Hanya gunakan alat ini untuk keperluan yang dimaksud di petunjuk pengguna.
- Untuk alasan higienis, alat sebaiknya hanya digunakan oleh satu orang saja.
- Jangan gunakan alat pada kulit iritasi atau kulit yang terkena varises, ruam, bintik-bintik, tahi lalat (berambut) atau luka tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu.
- Kulit Anda dapat menjadi agak kemerahan dan mengalami iritasi ketika beberapa kali pertama Anda menggunakan alat. Fenomena ini wajar terjadi dan akan segera hilang. Setelah lebih sering menggunakan alat, kulit Anda akan terbiasa dan iritasi akan berkurang. Jika iritasi tidak hilang dalam tiga hari, kami anjurkan agar Anda memeriksakannya ke dokter.
- Untuk mencegah kerusakan dan cedera, jauhkan alat yang sedang dioperasikan (dengan atau tanpa perlengkapan) dari rambut kepala, wajah, alis mata, bulu mata, pakaian, benang, kabel, sikat, dan lain-lain.
- Jangan gunakan aksesoris pemangkas akurat tanpa sisir pada daerah intim selain garis bikini, karena dapat menyebabkan cedera.
- Jangan gunakan sikat pengelupasan apa pun begitu selesai melakukan penghilangan rambut, karena hal ini dapat memperbesar kemungkinan iritasi kulit yang disebabkan oleh epilator.
- Jangan gunakan minyak mandi atau bersiram ketika Anda menghilangkan rambut dengan kondisi kulit basah, karena hal ini dapat menyebabkan iritasi kulit yang serius.
- Isi ulang daya, gunakan, dan simpan alat pada suhu antara 10 °C dan 35 °C.
- Jika alat dilengkapi dengan lampu untuk penggunaan secara optimal, jangan melihat langsung ke sinarnya untuk menghindari silau karena lampu.
- Jangan gunakan adaptor di atau di dekat stopkontak yang memiliki atau memasang pengharum udara elektrik untuk mencegah kerusakan permanen pada adaptor.
- Jangan sekali-kali menggunakan udara bertekanan, sabun gosok, bahan pembersih abrasif atau cairan agresif seperti bensin atau aseton untuk membersihkan alat.

Medan elektromagnet (EMF)

- Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Umum

- Alat ini tidak **kedap air** (Gbr. 2). Alat ini cocok untuk digunakan di kamar mandi atau shower dan untuk membersihkan di bawah keran. Demi alasan keamanan, alat hanya dapat dioperasikan tanpa kabel.
- Alat ini cocok untuk tegangan listrik berkisaran 100 hingga 240 volt.
- Adaptor mengubah tegangan 100–240 volt menjadi tegangan rendah yang aman di bawah 24 volt.

Garansi dan dukungan

Jika Anda memerlukan informasi atau dukungan, silakan kunjungi **www.philips.com/support** atau baca pamflet garansi internasional terpisah.

Batasan garansi

Unit pemotong tidak termasuk dalam ketentuan garansi internasional karena mudah aus.

Mendaur ulang

- Jangan membuang produk bersama limbah rumah tangga biasa jika sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan ini, Anda turut membantu melestarikan lingkungan.

한국의

중요 안전 정보

본 제품과 해당 액세서리를 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다.

위험

- 전원 공급 장치를 건조한 상태로 보관하십시오 (**그림 1**).
- 제품을 충전할 경우 연장선을 사용하지 마십시오.

경고

- 어댑터에는 변압기가 내장되어 있습니다. 위험할 수 있으므로, 어댑터를 잘라내고 다른 플러그로 교체하지 마십시오.
- 충전 시 제품과 함께 제공된 어댑터만 사용하십시오.
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 물로 세척하기 전에 반드시 제품의 플러그를 뽑으십시오.
- 누전을 방지하기 위해 제품 소켓에 금속이 포함된 이물질을 삽입하지 마십시오.
- 사용하기 전에 제품을 항상 확인하십시오. 제품이 손상되었을 경우 부상을 초래할 수 있으므로 사용하지 마십시오. 손상된 부분을 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.

주의

- 샤워 온도(최대 40도)보다 더 뜨거운 물을 사용하여 제품을 세척하지 마십시오.
- 사용 설명서에 나온 본래 용도로만 제품을 사용하십시오.
- 위생상 좋지 않으므로 이 제품을 타인과 함께 사용하지 마십시오.
- 자극을 받은 피부나 정맥류, 발진, 종기, 털이 난 점, 상처 등이 있는 피부에 제품 및 스마트 촉침계를 사용하려면 먼저 의사와 상담하십시오. 면역 반응을 저하되거나 당뇨병, 혈우병, 면역 결핍증을 앓고 있는 경우 의사와 상담 후 사용하십시오.
- 처음 몇 차례는 피부가 조금 발갛게 되거나 자극을 느낄 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며 곧 사라집니다. 제모기 사용 횟수가 늘어나면서 익숙해지면 피부 자극이 줄어듭니다. 3일이 지나도 피부 자극이 사라지지 않으면 의사와 상담하십시오.
- 제품이 손상되거나 사용자가 다칠 수 있으므로, 액세서리 연결 여부와 관계없이 제품 작동 중에 모발, 얼굴, 눈썹, 속눈썹, 옷, 실, 전깃줄, 및 등에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 비키니 라인을 제외한 다른 민감한 부위에는 빗을 제거한 상태로 프리시전 어태치먼트를 사용하지 마십시오. 피부에 상처가 날 수 있습니다.
- 제모기로 인해 피부 자극이 심해질 수 있으므로 제모 직후에는 각질 제거용 브리시를 사용하지 마십시오.
- 심각한 피부 자극의 원인이 될 수도 있으므로, 젖은 상태에서 제모를 할 때 목욕 오일이나 샤워 오일을 사용하지 마십시오.
- 제품은 10° C ~ 35° C 사이의 온도에서 충전, 사용 및 보관하는 것이 적합합니다.
- 제품에 울티 라이트가 장착되어 있을 경우 지나치게 눈이 부실 수 있으므로 라이트를 직접 들여다 보지 마십시오.
- 전원 공급 장치가 영구적으로 손상되는 것을 방지하려면 전기 공기 청정제가 사용된 적이 있거나 사용되고 있는 벽면 콘센트를 통해 또는 그 근처에서 전원 공급 장치를 사용하지 마십시오.
- 제품을 세척할 때 압축 공기, 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.

EMF(전자기장)

- 이 Philips 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

일반

- 본 제품은 **방수 (그림 2)**됩니다. 목욕이나 샤워 중에 사용하기에 적합하며 수돗물에 세척할 수 있습니다. 이에 따라 안전한 사용을 위해 본 제품을 우선으로만 사용할 수 있습니다.
- 이 제품은 100 ~ 240V 범위의 전원에 적합합니다.
- 전원 공급 장치는 100~240V의 전압을 24V 미만의 안전한 저전압으로 변환해 줍니다.

보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 **www.philips.com/support** 페이지를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

보증 제한

커팅 유닛은 소모품이므로 보증에 해당되지 않습니다.

재활용

- 수령이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이를 준수함으로써 환경 보호에 동참할 수 있습니다.

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. (1) 4자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를,뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 (2) 5자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 생산된 주를,마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다.예)06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 (3) 6자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 월을,마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예)061125 → 2006년 11월 25일 생산 (4) 9자리일 경우 : 앞의 한 자리는 제조국을,다음 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 생산된 주를,다음 한 자리는 공장의 생산라인을,마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예)507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 (5) 기타제조번호에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.

BAHASA MELAYU

Maklumat keselamatan penting

Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan aksesorinya dan simpan untuk rujukan pada masa hadapan. Aksesori yang dibekalkan mungkin berbeza-beza untuk bertlainan produk.

Bahaya

- Pastikan penyesuai sentiasa kering (Raj. 1).
- Jangan gunakan kord sambungan untuk mengecas perkakas.

Amaran

- Penyesuai mengandungi transformer. Jangan potong penyesuai untuk mengggantikannya dengan plag lain, kerana ini membawa kepada situasi berbahaya.
- Hanya gunakan plag penyesuai yang disediakan untuk mengecas peralatan.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau arahan berkenaan dengan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Setiap kali anda hendak membersihkan perkakas di bawah paip, pastikan plagnya telah ditanggalkan.
- Jangan masukkan objek mengandungi logam ke dalam soket perkakas untuk mengelak litar pintas.
- Pastikan anda memeriksa perkakas setiap kali sebelum anda menggunakannya.
- Jangan gunakan perkakas jika rosak, kerana ini boleh menyebabkan kecederaan. Bahagian yang rosak hendaklah digantikan dengan jenis yang asli sahaja.

Awas

- Jangan sekali-kali menggunakan air yang lebih panas daripada suhu pancuran (maks 40°C) untuk membilas perkakas.
- Hanya gunakan perkakas ini untuk tujuan dimaksudkan seperti ditunjukkan dalam manual pengguna.
- Atas sebab-sebab kebersihan, perkakas ini hendaklah hanya digunakan oleh seorang sahaja.
- Jangan gunakan perkakas pada kulit yang mengalami kerengsaan atau kulit dengan vena varikos, ruam, titik merah, tahi lalat (berambut) atau luka tanpa merujuk kepada doktor anda dahulu. Bagi mereka yang mempunyai daya imun yang rendah atau bagi orang yang menghidap penyakit diabetes mellitus, hemofilia atau keimmunodefisieran hendaklah merujuk kepada doktor mereka terlebih dahulu.
- Beberapa kali pertama anda menggunakan perkakas tersebut, kulit anda mungkin akan mengalami kerengsaan dan sedikit kemerahan. Fenomena ini adalah perkara biasa dan akan hilang dengan cepat. Apabila anda menggunakan perkakas tersebut dengan lebih kerap, kulit anda akan menjadi sebatinya dengannya dan kerengsaan kulit akan berkurangan. Sekiranya kerengsaan tidak hilang dalam masa tiga hari, kami mengesyorkan anda untuk berjumpa doktor.
- Untuk mengelakkan kerosakan dan kecederaan, jauhkan perkakas yang sedang beroperasi (dengan atau tanpa alat tambahan) daripada rambut, muka, bulu kening, bulu mata, pakaian, benang, kord, berus dan sebagainya.
- Jangan gunakan alat perapi jitu tambahan tanpa sikat di kawasan sulit selain garisan bikini, kerana ini boleh menyebabkan kecederaan.
- Jangan gunakan sebarang berus pengelupasan sejurus selepas pengguguran bulu, kerana ini boleh menambah lagi kemungkinan kerengsaan kulit akibat pengguguran bulu.
- Jangan gunakan minyak mandian apabila anda mencukur bulu dalam keadaan basah, kerana ini akan menyebabkan kerengsaan kulit yang serius.
- Cas, guna dan simpan perkakas pada suhu antara 10°C dan 35°C.
- Jika perkakas anda dilengkapi dengan lampu untuk penggunaan optimum, jangan lihat terus ke dalam lampu untuk mengelakkan silauan cahayanya.
- Jangan gunakan penyesuai dalam atau berdekatan dengan soket dinding yang mengandungi atau mempunyai penyegar udara elektrik untuk mencegah kerosakan yang tidak boleh dibaiki kepada penyesuai.
- Jangan sekali-kali gunakan udara termampat, pad penyental, agen pembersih yang melelas atau cecair yang agresif seperti alkohol atau aseton untuk membersihkan perkakas.

Medan elektromagnet (EMF)

- Perkakas Philips ini mematuhi semua piawaian dan peraturan yang berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Am

- Perkakas ini **kalis air (Raj. 2)**. Ia sesuai untuk digunakan dalam tab mandi dan di bawah pancuran dan untuk dibersihkan di bawah paip. Atas sebab-sebab keselamatan, perkakas tersebut hanya boleh digunakan tanpa kord.
- Perkakas ini sesuai untuk voltan sesalur kuasa antara 100 hingga 240 volt.
- Penyesuai mengubah 100–240 volt kepada voltan rendah dan selamat tidak melebihi 24 volt.

Jaminan dan sokongan

Jika anda memerlukan maklumat atau sokongan, sila lawati **www.philips.com/support** atau baca risalah jaminan sedunia yang berasingan.

Sekatan jaminan

Unit pemotong tidak diliputi oleh tema jaminan antarabangsa kerana ia terdedah kepada kelusuhan.

Kitar semula

- Jangan buang produk bersama sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan berbuat demikian, anda membantu untuk memelihara persekitaran.

PORTUGUÊS DO BRASIL

Informações importantes de segurança

Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho e seus acessórios. Guarde-as para futuras consultas. Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes.

Perigo

- Mantenha o adaptador seco (fig. 1).
- Não use uma extensão para carregar o aparelho.

Aviso

- O adaptador contém um transformador. Não desligue o adaptador para trocá-lo por outro plugue, pois isso resultará em uma situação perigosa.
- Use somente o adaptador fornecido para carregar o aparelho.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de lavá-lo com água corrente.
- Não insira objetos que contêm metal no soquete do aparelho para evitar curto-circuito.
- Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo. Não use o aparelho se ele estiver danificado, pois isso pode causar ferimentos. Sempre substitua uma peça danificada por outra do tipo original.

Atenção

- Nunca use água a uma temperatura superior à do chuveiro (no máximo 40°C) para lavar o aparelho.
- Só use este aparelho para o propósito ao qual ele se destina, conforme mostrado no manual do usuário.
- Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa.
- Não use o aparelho em peles irritadas ou com varizes, erupções cutâneas, espinhas, pelos encravados, verrugas (com pelos) ou feridas sem antes consultar um médico. Pessoas com baixa imunidade ou que sofrem de diabetes mellitus, hemofilia ou imunodeficiência também devem consultar um médico antes de usar o aparelho.
- Sua pele poderá ficar um pouco vermelha e irritada nas primeiras vezes que você usar o aparelho. Essa reação é absolutamente normal e desaparece rapidamente. A medida que você usar o aparelho com mais frequência, sua pele se acostumará com ele, e a irritação diminuirá. Se a irritação não desaparecer em três dias, recomendamos que você consulte um médico.
- Para evitar danos e ferimentos, mantenha o aparelho em funcionamento (com ou sem acessórios) longe do couro cabeludo, rosto, sobrancelhas, cílios, roupas, fios, cabos, escovas etc.
- Não use acessórios aparadores de precisão sem o pente nas áreas íntimas, exceto na linha do biquíni, pois isso pode provocar lesões.
- Não use escovas esfoliantes imediatamente após a depilação, pois isso pode intensificar possíveis irritações na pele causadas pela depilação.
- Não use óleos de banho ao se depilar com a pele molhada, pois isso pode causar irritações graves na pele.
- Carregue, use e guarde o aparelho a uma temperatura entre 10°C e 35°C.
- Se o aparelho for equipado com uma luz para otimizar o uso, não olhe diretamente para a luz. Isso evitará que sua visão seja prejudicada.
- Não use o adaptador em tomadas que contêm ou continuam um purificador de ar elétrico, nem perto delas, para evitar danos irreparáveis ao adaptador.
- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.

Campos eletromagnéticos

Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site **www.philips.com/support** ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

Restrições da garantia

- Esse aparelho é à prova d'água (fig. 2). Ele é adequado para uso na banheira ou no chuveiro e para limpeza em água corrente. Por questões de segurança, o aparelho só pode ser usado sem fio.
- Este aparelho é adequado para voltagens de 100 a 240 volts.
- O adaptador transforma a tensão de 100–240 volts em uma tensão baixa e segura, inferior a 24 volts.

Garantia e suporte

Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site **www.philips.com/support** ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

Restrições da garantia

As unidades de corte não estão cobertas pelos termos da garantia internacional, pois elas estão sujeitas a desgastes.

Reciclagem

